



## سوال

مغرب کی نماز کو عشاء تک موخر کرنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مجھے اور میرے اہل و عیال کو پچاس کلومیٹر دور ایک قریبی شہر میں بعض ضروری اشیاء خریدنے کے لئے جانا پڑتا ہے مغرب کے وقت ہم واپس لوٹتے ہیں اور ٹریفک کے رش اور مغرب کے وقت کی تنگی کے باعث ہم عشاء کی نماز کے وقت پہنچتے ہیں۔ یعنی مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد تو کیا شہر کے دور ہونے اور عورتوں کو لاحق ہونے والی مشقت کے پیش نظر مغرب کی نماز کو اس حد تک موخر کرنا کہ ہم شہر پہنچ جائیں جائز ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مذکورہ حالت میں دفع مشقت کے پیش نظر مغرب کی نماز کو اس حد تک موخر کرنا کہ تم اپنے شہر پہنچ جاؤ جائز ہے۔ اور اگر راستہ میں باآسانی نماز مغرب بروقت ادا کرنا ممکن ہو تو یہ افضل ہے۔

حدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ اسلامیہ

ج 1 ص 342

محدث فتویٰ